

MISIL/NPP/2022

February 18, 2022

**The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi.

By PUCARS & Courier

**SUBJECT: PUBLICATION OF NOTICE TO SHAREHOLDERS**

Dear Sir,

In accordance with the requirements of the applicable provisions of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attached herewith **(Annexure-A)** the copy of notice of interim cash dividend and book closure to shareholders, prior to its being published in newspapers.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

for **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**



**Muhammad Fahad Hafeez**  
(Company Secretary)



**REGISTERED OFFICE:**

31-A, Shadman -1, Lahore.  
Office: +92-42-35960841-3  
Fax: +92-42-35960846  
E-mail: fahadhafeez@mughalsteel.com  
Website: www.mughalsteel.com

NTN #: 3533975-6

STRN #: 03-06-7326-012-82

**WORKS:**

17- K.M, Sheikhpura Road, Sheikhpura.  
Tel: +92-42-37970226-7  
Fax: +92-42-37970326

## NOTICE OF INTERIM CASH DIVIDEND AND CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

### INTERIM CASH DIVIDEND :

The Board of Directors in their meeting held on February 17, 2022 has approved the payment of an Interim Cash Dividend @ Rs. 3/- per share i.e. 30%.

Dividend will be paid to those members whose names appear in the Register of Members as at the close of the business on March 03, 2022. Physical transfers / Central Depository System (CDS) Transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on March 03, 2022, will be considered in time, for the entitlement of payment of dividend.

### BOOK CLOSURE TO DETERMINE ENTITLEMENT FOR INTERIM CASH DIVIDEND:

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from March 04, 2022 to March 08, 2022 (both days inclusive).

### NOTES

#### a) Valid bank account details

Members are requested to provide/update their correct International Bank Account Number ("IBAN") details latest by March 03, 2022. In case shares are held in physical form, to the Company's Share Registrar and in case shares are held in CDS then with relevant Participant/CDC account services.

Please note that in case of failure to provide/update correct IBAN details by the members, the Company will be constrained to withhold payment of dividend in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and related regulations.

#### b) Valid identification details

Members are requested to provide/update their valid Identification details (i.e. CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities)) latest by March 03, 2022. Please note that the Company will be constrained to withhold payment of dividend in case of non-availability of valid identification details in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and related regulations.

#### c) Withholding tax on dividend

##### **Tax rates**

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend is based on 'Active' and 'Non-Active' status of members, whereby, rate of withholding tax is 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (<http://www.fbr.gov.pk/>) and 'Non-Active' means a person whose name is not appearing on the Active Taxpayers List.

The Company will ascertain the tax status of members as at the first day of book closure and will deduct tax accordingly. All the members whose names are not entered into the Active Taxpayer List, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into the list latest by March 03, 2022, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead @15%.

##### **Tax on joint shareholding**

Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-filer and tax will be deducted according to his / her shareholding. If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by March 03, 2022.

CDC Account Number / Folio	Name of Shareholders (Principal / Joint Holders)	Number or percentage of Shares held (Proportion)	CNIC number	Signature
----------------------------	--	--	-------------	-----------

##### **Tax exemption certificate**

Members seeking exemption from deduction of income tax or those members who are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be latest by March 03, 2022.

#### d) Change in address

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses. Members maintaining their shares in CDS should have their address updated with their relevant Participant/CDC account services.

(On Behalf of the Board)  
-sd-

Muhammad Fahad Hafeez  
Company Secretary

Lahore:  
February 19, 2022

## عبوری نقد ڈیویڈنڈ اور حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش کانوٹس

عبوری نقد ڈیویڈنڈ

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 17 فروری 2022 کو منعقد کردہ اجلاس میں 3 روپے فی شیئر یعنی 30 فیصد کے تناسب سے عبوری نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری دی ہے۔

ڈیویڈنڈ انمیران کو ادایا جائے گا جن کے نام 03 مارچ 2022 کو کاروبار کے اختتام تک ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔ وہ مادی منتقلیاں/سینزل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) ٹرانزیکشن آئی ڈیز، جو کہ کمپنی کے شیئر رجسٹر میں THK ایسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جلی کرشل سٹریٹ 2، ڈی-ایچ-اے-7، VII کراچی کو 03 مارچ 2022 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوں گی، وہ عبوری نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے حق کا تعین کرنے کیلئے بروقت تصور ہوں گی۔

عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے حق کا تعین کرنے کیلئے بندش کتاب

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتاب 04 مارچ 2022 سے 08 مارچ 2022 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گی۔

نوٹس:

a۔ بینک اکاؤنٹ کی درست تفصیلات

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 03 مارچ 2022 تک اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی درست تفصیلات فراہم/اپ ڈیٹ کریں۔ اگر حصص مادی صورت میں ہیں تو کمپنی کے رجسٹرار کو اگر ضرورت ہو تو CDS میں ہیں تو متعلقہ شراکت دار CDC اکاؤنٹ سرور کو فراہم کریں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ممبران کی طرف سے درست (IBAN) فراہم/اپ ڈیٹ نہ کرنے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس سے متعلقہ ضوابط کی متعلقہ دفعات کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہوگی۔

شناخت کی درست تفصیلات

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 03 مارچ 2022 تک اپنی درست شناختی تفصیلات کمپنی کے رجسٹرار کو شناخت کیلئے (یعنی NTN/CNIC/SDIC) (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) فراہم/اپ ڈیٹ کریں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس سے متعلقہ ضوابط کی متعلقہ دفعات کے تحت درست شناختی تفصیلات کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہوگی۔

حصص پر دوہولنگ ٹیکس

شرٹ ٹیکس

انٹرنیشنل آرڈیننس، 2001 کی شق 150 کے تحت حصص پر ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر دوہولنگ ٹیکس کی کوٹنی لازمی ہے۔ ڈیویڈنڈ پر دوہولنگ ٹیکس کی کوٹنی 15 فیصد ایکٹو اور 30 فیصد ان ایکٹو بنیاد پر ہوگی۔ ایکٹو سے مراد وہ شخص ہے جس کا ایف بی آئی (http://www.fbr.gov.pk) کے ای پورٹل پر موجود ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل ہوگا اور ان ایکٹو سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔

کمپنی بندش کتاب کے پبلشمنٹ ممبران کے فائلر یا نان فائلر ہونے کا تعین کرے گی اور اس کے مطابق ٹیکس کی کوٹنی ہوگی۔

تمام ممبران جن کے نام ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں یا جو اس کے دوہولنگ ٹیکس نہیں دیتے یا جن کے نام ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام 03 مارچ 2022 تک تازہ ترین فہرست میں شامل کر لیے جائیں، بصورت دیگر ان کے نقد عبوری ڈیویڈنڈ پر 15% کی بجائے 30% ٹیکس کی کوٹنی ہوگی۔

مشترکہ حصص یافتگان پر ٹیکس کا اطلاق

وہ ممبران جو کہ مشترکہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور جو فائلر اور نان فائلر ہیں انہیں علیحدہ تصور کیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں ہر اکاؤنٹ ہولڈر سے بطور فائلر اور نان فائلر معاملہ کیا جائے گا اور ان کی مشترکہ ہولڈنگ کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مشترکہ ہولڈنگ کے متعلقہ حصص کا تعین نہ ہونے کی صورت میں ہر مشترکہ ہولڈر کا حصہ برابر تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی۔ لہذا اندر شرح سے ٹیکس کوٹنی سے بچنے کیلئے مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل تفصیلات کمپنی رجسٹرار کو 03 مارچ 2022 تک جمع کروادیں۔

سی ڈی ای اکاؤنٹ نمبر/فولیو	شیئر ہولڈرز کا نام (پرنسپل/جوائنٹ ہولڈرز)	شیئر ز رکھنے کی تعداد یا شرح	CNIC نمبر	دستخط
----------------------------	---	------------------------------	-----------	-------

دوہولنگ ٹیکس سے استثنیٰ کارٹیکلیٹ

انٹرنیشنل کی کوٹنی سے استثنیٰ حاصل کرنے والے ممبران یا وہ ممبران جو کم شرح پر کوٹنی کے اہل ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا درست ٹیکس سے استثنیٰ کارٹیکلیٹ یا ضروری دستاویزات 03 مارچ 2022 تک جمع کروادیں۔

پتہ کی تبدیلی

فوری عمل میں حصص رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

سی ڈی ای ایس میں اپنے حصص کو برقرار رکھنے والے ممبران اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں اپنے متعلقہ شراکت دار/سی ڈی ای اکاؤنٹ سرور کو مطلع کریں۔

بحکم بورڈ

محمد فہد حفیظ

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور :

19 فروری 2022